

**Maulana Azad National Urdu University**  
**B.Sc. (M.P.C/M.P.Cs) IV Semester Examination - May - 2019**

**(Physics)**  
**BSPH401CCT: Thermal Physics**

Time : 3 hrs

Marks : 70

**ہدایات:**

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پُر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ **(10 x 1 = 10 Marks)**

2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 10 سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختصر ہیں۔ **(5 x 6 = 30 Marks)**

3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ **(3 x 10 = 30 Marks)**

### حصہ اول

سوال (1)

محفوظ ہے۔ Adiabatic process (i)

کی قدر لکھیے۔  $C_p/C_v$  میں Monatomic gas (ii)

سے کیا مراد ہے۔ Enthalpy (iii)

بیان کریں۔ Carnot theorem (iv)

کے کہتے ہیں۔ Viscosity (v)

کی تعریف کیجیے۔ Mean free path (vi)

کو بیان کریں۔ Rayleigh–Jeans Law (vii)

کو سمجھائیے۔ Fermions (viii)

کی تعریف کیجیے۔ Microstates (ix)

کی اکائی (units) لکھیے۔ Stefan's constant (x)

### حصہ دوم

کو سمجھائیے۔ Transport Phenomenon Conductivity (2)

کے مساوات کو اخذ کریں۔ Mean free path (3)

اور Adiabatic Process میں انتیاز کیجیے۔ Isothermal (4)

Entropy change کو معلوم کیجیے۔ میں Free expansion of Gasses (5)

کے مساوات کو اخذ کیجیے۔ Gibbs-Helmholtz (6)

کو بیان اور ثابت کریں۔ Wien's Displacement Law (7)

ثابت کیجیے۔ Cp-Cv=R (8)

اور RMS رفتار میں فرق بیان کیجیے۔ Most probable, Average (9)

### حصہ سوم

کی مساوات کو اخذ کیجیے۔ Efficiency Carnot Engine (10)

کو حاصل کریں۔ Maxwell equations سے کیا مراد ہے؟ Thermodynamic potentials (11)

کو اخذ کیجیے۔ Plank's Law of Black Body Radiation (12)

پر بحث کیجیے۔ Fermi-Dirac statistics (13)

کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ Maxwells Law of distribution of Velocities (14)

☆☆☆